

طبع علی نفقة :

مکتبۃ و مطبعة منارا

”قدس“

شِعْر

سَكَارِكَادَاطُونْ

فِي تَأْنِيَتِهِ أَهْلُ الْوَطَنْ


لِدُبِيِّ مُحَمَّدِ صَالِحِ الْجَوَى

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلَوَالْدِيهِ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

طبع على نفقة :

” دَكْتُورَةُ وَطَبَعَتْهُ مَنَارًا قَدِيس ”

— حقوق الطبع والنشر محفوظة لها —



غَاوِيْتِيْ اِغْسَنْ لَوْاْنْ بِسِمِ اللَّهِ
 تَبَاهِيْ رَحْمَة سَرْتَانِيْ سَلَامْ
 مُؤْكَاتِقَنَا اِغْ فُوْغَكَا سَانِيْ
 مُحَمَّدِيْنِيْ كُوْمُوْغُكُوْهْ اَسْمَانِيْ
 لَنْ صَحَابَتِيْ سَكَابِيْهَا سَانِيْ
 سَكَاركِدَاطُونْ اِغْسَنْ غَرَانِيْ
 كَاغْكَوْ فِيْقُونُور وَوْغَ اَوْمَهْ
 پَأْ تُوكَارْفَادْ جَلَارَانْ وَرَوْهْ
 مُؤْكَافَشِيرَانْ فَارِيْغَ منْفَعَهْ
 اِغْ وَوْغَكَعْ مَجَا اِيكِيلَه شِيشِكْ

اِغْسَنْ اَمْوَجِيْ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 كَلَوْاْنْ اَكِيْه سَرْتَانِيْ دَوَامْ
 نَبِيْ اُوتُسَانْ لَنْ كَهْكَلَانِيْ
 لَنْ مُؤْكَاتِقَنَا اِغْ وَرْكَانِيْ
 لَنْ وَوْغَكَعْ مَانُوْه اِغْ اَكَماْنِيْ
 اِيكِيلَه شِيشِرْ مُوْغُكُوْهْ فَرْلُوْنِيْ
 سُوفَيَا تَنْتَرْم سَرْاْنَا كَنَهْ
 اِغْ كُوْكَجَانْ اِغْكَعْ دِينْ تَمْفُوهْ
 اِيكِيْشِيرَانْ تُوكَقِيْكَامَهْ
 لَنْ وَوْغَكَعْ كَرْ وَغُوكَعْ چَلَه فِيْكِيرْ

فُقَتْ لِدِّهْتَهْر

هِيَ فَرَالنَّغْ كَعْ وُوس دُويني
 يَلَنْ فَنْجِي سِيرَاينِكُو وُوس قُوات
 سَرَانَا غَرْتِي شَرَطْ رُوكُونِي
 لَنْ غَرْتِي مَرَاغْ كُواجِبَانِي
 بِچِيكْ دَاعْ كُولِيكْ بَوْجُونَغْ فَنَسْ
 نِيتَانِيرو كَلَا كُوهَانِي
 نِيَةْ عَائِكِهْنَا مَرَاغْ أَمَتَتِي
 يَلَنْ كَابِيهْ مَاهُو سِيرَادُوغْ غَرْتِي
 يَلَنْ سِيرَاينِكُو دُورُوغْ دُويني
 سُوفِيَا آفسْ آفَا شَهُونِي
 آواهْ مُورْكَسَاكْ لُويَهْ قُوات
 كَعْ كَدِي باشَةْ موْغُوكْ سِكَانِي
 بِچِيكْ آيلِيغا زَمَنْ وُوس آخِرْ
 اَعْ فَشِيكْ كَعْ نَكَا كَيَ

حاجَهْ وَوَعْ وَادَونْ بَرَانَطا آتِينِي
 بَنْفَرَنَا كَيَ كَابِيهْيَ رَاكَاتْ
 وَوَعْ لَأَ كَيَ رَابِي سَا سَمَفَرَنَايَ
 وَوَعْ دُويَ بَوْجُوسْ كَابِيهْيَانِي
 سُوفِيَا شَيْطَانْ كَوْدَانِي اَفَسْ
 كَوْسَتِي جَعْ نَبِي جَرَوَاتِينِي
 سُوفِيَا اَولَيَهْ اَعْ شَفَنَاعَتِي
 غَاجِيَا دِي سِيكْ كَعْ اَتِي اَتِي
 رَاكَاتِي نِكَاحْ بِچِيكْ فَاسَانِي
 كَعْ اَجَاهْ سَنْقَ لَذَانِي
 سَكْمَ فَشِيكَاوِي اَعْكَمْ مَعِصِيَةْ
 يَا اينِكُوزِنَا مُوعِظَهْ اَرَانِي
 اَكِيهْ وَوَعْ لَأَ لَى اوْزَادَ اَمِيكِيرْ
 اَعْ دَوْسَاكِدِي مَرَاغْ اَوَا كَيَ

فَرَكَ حَرَامْ كَنْدَلْ تُورُوْانِي
 نُورُوْتِيْ عُومْ اِينْكُوْ اوْبِنِي
 كَارَوْوَوْغْ لَنْغْ لِيَا كَوْنِجِيَّان
 دَادَ دَادِيْ كَاوِي كَارُوكَانْجَانِي
 مُولَانِي دُونِيادَ اِبِيْسَا آمَان
 تِيجَاهْ فُولَاهِي لَنْ فَقَاعَكُونِي
 اِينْكُودِيْ چَاجَهْ سَرَتَادِيْ اِعْكَف
 كَافَرَاهِي لَا كُونْ دَاءْ هَنْفَعَتِي
 بُوجُوْيِي شِيطَانْ نِيقْ مَنْوَسَانِي
 بُوجُوْيِي شِيطَانْ اِيكِه وَرَنَانِي
 اَمْبُوهْ دَاءْ غَرَّتِي سِيْقْ فَدَأَبَلِيْغ
 اِينْكُوبَكَالِيْ اِعْكَمْ خَوْكُومِي
 كُولَادُوْمَاتَغْ ذَاتِ اِعْكَمْ كَرْسَا
 لَارِيْ كَاوْلَاجَالَرَآيْسَتِريْيِي
 غَانْقَوسْ دَوْمُوكِيْ اِيجَالِيْ جَكَانْ

اوْزَارْ وَمَوْعِسَافَدَأَغَلَاكُونِي
 مَالَهْ رُومُوغَاسَا باكُوسْلا كُونِي
 كَيَا وَوْغْ وَادَوْنْ فَدَاسِيَا اَن
 نُولِيْ دَالُوغَا فَوْطُو كَارَوْنِي
 اِينْكُومُودِيلِيْ وَوْغْ اِيكِي زَمان
 يِيلِيْ اَنَا وَوْغْ دَيْسِرْلا كُونِي
 روْدَوْ نُوْحُوكِي حُكْمَهْ كَعْتَقَة
 وَوْغْ كَوْلَوتْ سَبْبَ اَورَانْوَرُونِي
 مُولَامَثَكُونْ سَكْعَهْ مَانِدِيْيِي
 سَرَتَا اَلُوسِيْ لَنْ دَالَانِي
 بَحَابَجَانِيْ سِيْقْ فَدَأَيْلِيْغ
 ذَاتِ اِعْكَمْ كَاوِي لَاعِتْ لَنْ بُويْ
 نَعْوَذْ بِاللهِ نُونْ فَغَرْكَسَا
 سَهَادُوْمَاتَغْ سَامُودَايَانِي
 سَكْعَهْ فَنْدَامَلْ اِعْكَمْ كَسَبَاتْ

آدَابُ الْمُعَاشَةِ

هَيْ فَرَالنَّعْ كَعْ وَوْسِ دَوْيِنِيْ
 تَتَأْكِرَ أَمَانِيْ دَادِيْ وَوَعْ لَنْعَ
 يَا إِنْكُو سِيرَا كُوْدُو بَا كُوْسِيْ
 سَرْتَانِيْ سِيرَا كُوْدُو دَوْيِنِيْ
 يَانِ سِيرَا الْوَمَعْ لَجَاهْ حُوْبِنْتَادِ
 بَچِيكْ غَافُورْ بَچِيكْ كَعْ صَبَرْ
 كَيَافَدَانِيْ أَوْلَيْهِيْ كَانْجَارْ
 بَچِيكْ أَيْلِيْغَايِنِ سَتَهُونِيْ
 كَعْ مَهَا سُوْجِيْ لَجَاسِهِرَانْ
 بَچِيكْ بُوكُو فيْ سَنْدِاعْ فَثَانِيْ
 سَرْتَامِيتَرُوتْ مَرَاعْ فَدَانِيْ
 جَافِيسَانْ سِيرَا جُورَلَائِيْ
 كَوْأَجَانِيْ وَوَعْ بَوْجُوهَانْ
 رُوفَانِيْ دَأَوَوْهْ چَارَجَاوَانِيْ

إِغْ بَوْجُوسِيرَا كُوْدُو غَلَاكُونِيْ
 سُوفِيَا وَادَونِ أَتِيْنِيْ تَنْعَ
 هَرَاعْ وَوَعْ وَادَونِ سَرْتَامِلاسِيْ
 أَفَلَاتِ كَعْ أَجِيرِسَانِ دِينَانِيْ
 يَينِ وَادَونِ لُوفُوْهْ لَجَابُوكَلَادِ
 سُوفِيَا سِيرَا إِنْكُو دِينِ كَانْجَارْ
 جَعْ نَبِيْ أَيُوبْ كَعْ لُويْهِ صَبَرْ
 وَوَعْ وَادَونِ إِنْكُولَهِ تِيْفَنَانِيْ
 سِيرَا أَغْرِكَسَالَنْ أَجَالَيِنَا
 هِيدِيَرُوتْ سِيرَا فَكُوْأَتَانِيْ
 سَرْتَامِشَسَانِيْ لَنْ فَعُقُونَانِيْ
 هَرَاعْ وَوَعْ وَادَونِ أَوْرَامَرْ دُولِيْ
 بَچِيكْ أَيْلِيْغَايِعْ دَأَوَوْهَانْ
 آنِدِيْ وَوَعْ لَنْعَ إِغْلَكْ غَرَبِيْنِيْ

آکیه لَنْ کِیدِیکْ فَدَا کاروئی
 حَقِّی وَوْغَ وَادُون بُوجُوارَانی
 بیسُوپین سُوان آنا غرسانی
 قِيَامَة لَنْعَ سَالَه لَا کُونَی
 وَوْغَ وَادُون بِجُور اوْراغِرِیضَه
 بِچِیک وَوْغَ لَنْعَ آیلِیعَ آتِینَی
 اَعَ وَکَاس اِعْسَن اِعْلَمَه اوْتمَه
 هَرْغَ وَوْغَ وَادُون کَعْ پَلَه بَکْتَه
 هَرْغَ بُويُوغَان سِیْعَ آتِیٰ
 لِیاَنَی شَارَف کَبا کُوسانی
 کَیا راهِیه نَی کِیتو بِسْعَوت
 اُتو اِمِیسوه مَلِیروه تَانی
 یَین اِیکُو وَادُون نُشُوزَارَانی
 کَلَوَان بَاپُوس سُوفِیا مَارِی
 اِیکُو وَوْغَ وَادُون فَغَلَجَارَانی

هَرْغَ وَوْغَ وَادُون چِیک مَسْکوئَنی
 کَافَن وَوْغَ لَنْعَ اوْرَان کَانَی
 یَین کَاسی هَانَی دُور وَعَنْکَانَی
 کُوسَتِی کَعْ اِکُون بیسُوپ دِیانَی
 نَاشِیعَ یَین نَیه اوْرَان کَانَی
 کُوسَتِی جَمَع نَی دَاوَوَه مَعْکِینَی
 فَرَاوَوْغَ لَنْعَ بِچِیک هَنْزِیما
 بِچِیک کَعْ بَاپُوس سِیرا غَرْ وَمَاتَی
 جَلَارَان وَادُون اِیکُوسَفَرَتِی
 دَاء آنا هَانَیه کَد وَوَه سَانَی
 یَین فَنْجِی وَادُون اِیکُودا نُورَق
 اُتو اِپَغِیل آفَا فَادُونی
 تَکَسِی تَرَاعَ آفَا تَان دَانَی
 بِچِیکی سِیرا کَوْد وَنُوقَرِی
 لَن اَجا اوْر موْغَسَا تُور وَنَی

کَنَابُوكِتِیْکُ اَوْرَامَانَانِيْ
 نِیْغِ اِیْکِیْ زَمَانُ اَرَاعَ اَنَانِيْ
 وُجُودِيْ وَادَونُ مَا هُوَ لَعْكَانُ
 اَصَلِيْ وَادَونُ بَالُوغِ مِيقَلِیْتِيْ
 تِقْوِيْ اَغْتِيلُ مُوْغُوكُه لُورُوسِيْ
 يَا سُوْعَكَا سِیْطِیْکُ جَادِیْ كَرَاسِيْ
 مُوْغُوكُه اِیْعَانِيْ اِنْکُو دَاءْ نَـا
 فَكَرْتِيْ بَاپُوسْ طَاعَةْ غَلَـاکُونِيْ
 لَـنْ مَارِیْش اَـنَـا سَـکــاـیــهــانــانــيــ
 الــاــلــنــاــفــیــکــ فــدــاــکــارــوــنــیــ
 وــوــغــ لــنــعــ شــمــانــیــهــ مــرــاعــ بــوــجــوــنــیــ
 ســوــفــیــاــ بــنــزــ اوــلــیــهــیــ طــاعــةــهــ
 اــتــوــافــرــیــنــتــاــهــ عــاــجــیــ لــیــانــیــ
 وــوــغــکــمــوــرــوــنــیــ تــکــســیــ کــوــرــوــ
 مــاــلــاــدــمــکــســاــهــاــســرــتــاــمــدــیــنــیــ

يــلــنــ اــیــســیــهــ دــوــرــوــغــ بــیــســاــمــاــرــیــنــیــ
 وــاــدــوــنــ کــثــبــاــپــوــســ ظــاــهــرــ باــطــنــیــ
 پــکــاــءــکــتــحــ تــقــلــاءــ اــیــکــوــفــدــانــیــ
 لــنــهــانــیــهــ ســیــرــلــجــیــکــ غــیــلــیــتــیــ
 کــعــ بــیــعــکــوــعــ رــوــفــاــ اــیــکــاــوــکــاســیــ
 مــوــلــاــیــلــنــ ســیــرــلــاــکــارــفــ تــعــوــرــوــســیــ
 وــوــغــمــؤــمــنــ اــغــکــمــ لــوــیــهــ ســمــفــرــنــاــ
 لــیــانــیــ وــوــغــکــعــ فــدــاــ دــوــوــنــیــنــیــ
 وــکــاــســ لــنــ اــیــســیــهــ مــرــاعــ بــوــجــوــنــیــ
 دــاــ،ــ فــیــلــیــهــ کــاــیــســیــهــ ســالــهــ ســجــینــهــ
 ســتــقــهــ ســکــعــ شــ کــوــاــجــبــانــیــ
 اــیــکــوــمــوــرــوــنــیــ حــکــمــ شــرــیــعــهــ
 مــرــاعــ فــغــیــرــانــ رــیــنــاــ وــغــیــنــیــیــ
 مــرــاعــ وــوــغــ وــاــدــوــنــ ســوــفــاــلــوــرــوــ
 مــاــلــاــهــاــنــ وــاجــبــ لــنــعــ شــعــیــذــیــنــیــ

عبدَه وَاجْبَسَ سَفَدَانِي
شَرَطُرُوكُونِي دِيْ اَتِيْ اَتِيْ
حُكْمِيْ حِيْض سَرْتَاسُوْ حِينِي
بَچِيكْ كَعْ پِينْس نِيتَاسِجِي
مَاعَ اَوَايِيْ كَعْ لُويْه رُوسَا
كِيَا فَغَانِيْن لَا كِيْ دِيْ اَرَاء
كُودُوغِيْ سَاوَاعْ مَلِيرِيْكْ هَمْبُورِي
اَولِيْيِيْ پِنْدَاعْ مَوْعَسَالُوْغَانِي
مَاعَ بُوجُونِيْ دَاء هَارِيْ هَارِي
بَكَالْ كَجْپُورْ مَاعَ نَرَآ كَا
وَوْعَ غُونْفَوِا يِكْو اَجَابُورِيْرو

مَاعَلَى الْزَّوْجَةِ

بُوجُونْسِطِينِيْ كُودُوغَلا كُونِي
لَنْ اَجَاتِيْشِكَالْ تَتا كَرا مَانِي
هَارِيْش لَنْشِيْ اِعْشَكْ سَجَاتِي

يَيْن اِيكُو وَادُونْ شَلْجِي عِلْمُونِي
عِلْمُونِي صَلَاهْ كُودُومَاغْرِتِي
اَتُوا عَاشِجِي مَاعَ عِلْمُونِي
نَاعِيمْ وَوْعَ وَادُونْ يَيْن لَوْغَاشِجِي
سَرَانَا عَادِلْ اَولِيْهِيْ غَرْكَسَا
يَيْن لَوْغَاشِجِي اَجَاكُو هَماچَاه
وَدَاء لَنْ كِيْنْجُونْ تَنْ كَنا كَارِي
يَيْن اُورَابِيسَافَدْ اَكَانْجَانِي
يَيْن تَقُوكْ اَوْمَه بِجُورْنُوكَارِي
اِيكُوتِيْشِكَاهِي وَادُونْ چِيلَاكَا
سَبِبِ نِيتِي اِيكُوكْ كَلِيْرو

فَرَأَوَوْعَ وَادُونْ كَعْ وَوْسِدِونِي
كُو اَجَبَانِي سَكَابِيهَانِي
وَاجِبي وَادُونْ كُودُوغَاشِبَكْتِي

بوجولنىي سىبن دىن سانى
 اغ وادون اىشكىم دين سووناگى
 مانولن ايواء جرو باپۇنى
 سرتاسرىغىنى لىن رەبلاپى
 يىن فېچى لەنخ رەضانى ئىجىيە
 اغ صلاة لىما سرتا فاسانى
 سرتا بىتى كۈزۈلەكىنى
 اغ دەۋا ووهان بىجور غلاكۇنى
 مراع سوركاسا خارف ايرا
 مەيتوروت سىيرا افاسىنى
 اينكۈركۈ رضا مۇعەتمىتىنى
 سرلاناسىنى پادىناسوسە
 فالا كىتىنى لەنخ بوجۇنى
 ووغ فراغ سېيل مۇغۇر كەدىنى
 دىي لارا كى كارو بوجۇنى

لىن كەدۇق كۈلىك مەلغۇر رەضانى
 سۇفيا سىيرادىن لىبوڭى
 غافور ادېنىي سكابىنەنايى
 لىن ملانىكە لايىت مەشكۈنى
 دا، لېرىن لى بۇون كاپىيە
 وادون كە باكۇس كلاڭوھانى
 وۇلان رمضان غرگىسا فەجىنى
 اينكۈر ووغ وادون بىكار نەضانى
 هي وادون ايوەمبۇھا سىيرا
 فيلىها كاپىيە آندىي لا وائىي
 وادون كە ما تى تا في بوجۇنى
 مەلبۇسۇر كاپقۇن بوغۇنى
 وادون كە صېرىمەرىغ ئالانى
 اينكۈزىن كاپچازىكى فەدانى
 وادون كە صېرىغ ئەلىكەنلىي

دیوی آییه فرعون وادونی
 داوهی نبی ایشک سجاتی
 کوستنی فرا وادون مومنه
 واجبی کوچو جرو آتینی
 کاعشو غیثونی آنا بوجونی
 غلا کونی پاکوس سیحان اوتوع
 سیحی دراجه یائیسا موغلکه
 دادی بینیتی نیران سق فیتو
 سکع نرآ کا تف بو غهی
 رامبوئی آنا سرتا پورینی
 بکالی وادون غونی ایناء
 مغان ووع سیو و کمع فد اعلیه
 او لمی کانجارتی دا سودا
 دین چکا هغه بی پور تلا کا
 او ای پدیوی لن اهل بیتی

ایکونین کانجارتی اف دانی
 هی فرا وادون کود و ما غرتی
 مراغ فوتانی دیوی فاطمه
 ای بوری ایکی موغلکه رو فانی
 وادون کع نو تو سجا آتینی
 سیحی سیحینی کابه دین ایتوع
 مانیه ووع وادون سیحینی کابه
 کریقتی وادون جلاران نو تو
 تی تو نی وادون با غة ادو هی
 آندی ووع وادون ایشک غلغانی
 لن خوبها های جاریتی آنا
 جلاران وادون دین تولیس اویه
 لن اویه سندا ش سیو و ووع اودا
 وادون کع پکا ه حاجتی تو غلکا
 دین فیحی لویه سکع حاجتی

لِيَانِي رِضَا كُمْ سَكِّعْ بُو جَوْ
 بُو جَوْ تَنْ أَوْلَى يَهْ بِنْ دُورْ فَدَانِي
 بِنْ دُورِ رِضَا نِي بُو جَوْ جَاوَانِي
 بُو جَوْ لَنْغَى مُو شَكْ كَامْتُو نِي
 آنا آخِرَةْ نَوْمَفَا پَكَانْجَرَانْ
 اِيكُو وَعْ وَادَونْ بِنْ دُورِ نَعْلَانِي
 آنا نَرَآ كَابَكَالْ كَاچَهْ فَلَوْعَ
 يَينْ لَنْحَ شَحَاجَهْ بَچِيْكُ نُورُو نِي
 بَچِيْكِيْ سِيرَا نُورُو نِي كَبَاتْ
 نِيتَا سِيرَا كَولِيْكُ رِضَا نِي
 لَعْ لَوِيْهْ اِيكِيْ سَكِّعْ فَقِيرَانْ
 نِيْعَ اِيكُو وَادَونْ حَاصِلْ هَتِقَيْ
 فَدَانْوُونْ نَا اِعْ عَافُورَانِي
 دِينْ تُولِيْسْ عَمَلْ كَبا كُوسَانِي
 دِينْ لَبُورْ سِيرُو وَعَمَلْ لَآنِي

نَا غِيمْ دَادَنَا كَثْ لَوِيْهْ اوْنجُو
 مُوكَلْ مُعْكُونْ سَبَبْ رِضَا نِي
 بِنْ دُورِ رِضَا نِي آللَهْ مَدَانِي
 يَينْ فَنْجِيْ وَادَونْ اَوْلَى رِضَا نِي
 اَوْلَى يَهْ كَارِضَانْ سَكِّعْ فَقِيرَانْ
 يَينْ بُو جَوْ لَنْحَ اِيكُو بِنْ دُونِي
 سَكِّعْ بِنْ دُونِي فَقِيرَانْ اِيكُو وَعْ
 مُوكَلْ وَعْ وَادَونْ كَعْ اَتِيْ
 يَينْ فَنْجِيْ اُورَامَلَاغْ كَارِشُو يَعِيْه
 اَجا كَسُو وَينْ نِيْعَ اَندِيْ كَوْنِيْ
 لَنْ نِيْهْ كَولِيْكُ مُريْعَ كَانْجَرَانْ
 يَا اِيكُو آللَهْ لَوْنْ مَارِيْعِيْ
 لَنْ مَلَانِي كَهْ سَكَابِهَانِيْ
 دُوسَانِيْ وَادَونْ سَبَنْ دِينَانِيْ
 فِيْعَ سِيرُو وَعَمَلْ سِيجِيْ دِينَانِيْ

سىب و و س كارق متو باينى
 كا بخرا ان اكىد كيا ف دانى
 و و س سيد ام تو وادون تمونى
 كم لا كى مت تو س كمع ايمونى
 بوجول نىي باز سى جانى
 لمون اما تى رىي ك دوسانى
 كبون سور كا ايكودا دى ينى
 سى يو و و وع نىر سى يو و حاجى
 سى يو و بونا اغ غافورانى
 دى ينا قي امامه ايكو مىشانى
 بوجول نىي رى ينا و غى ينى
 سى انا باز مو شى كوه سى جانى
 كرسا غافورا دوسانى بىرى سىه
 بىرى قي امامه تو مفاسى پىلىنى
 و و لوكى كىخ تەن انا ب دانى

لمون و و وع وادون ايكو غلارانى
 ايكودىن تو لىس وادون دويى
 و وع ف راع سىييل لمون باينى
 دوسانى رىي ك كيا باينى
 ف دانى وادون اغ كمع غلا دينى
 دادى و وع وادون ايكو مىشانى
 لىن غمۇ وادون اغ قبورانى
 سرتا دين كا بخار كيا ف دانى
 لىن ملا ئىكە و و يلا غانى
 لىن پو ونا كى كاسى تكاني
 اندىي و وع وادون اغ كمع غلا دينى
 كلوان ا خلاص سىنچ اتى ينى
 ايكو فغىر ان صىفة كمع اسىله
 فغا غان كوا يجۇ مۇغۇ ورنانى
 سرتا دين تو لىس بىجى سىجىنى

لَن سَاتُوسْ عَمَلْ عِمَرْ حَاجِنَيْ
 تُور بُريْسِهَا كَيْ مَاعْ جَارِيْكَيْ
 عَمَلْ كَعْ بَا كُوسْ سِيو و سِر تَانِيْ
 اوْلِيْه غَافُورَانْ سَكَابِيْه سَانِيْ
 سِيو و درجَةْ افَا اوَا كَيْ
 دُوسَانِيْ وادون سَكَابِيْه سَانِيْ
 كَعْ كَسُور و قَانْ اعْ سُرْ شِيقِينِيْ
 واجِبِيْ غَانِدَلْ فَقِنِدِيْكَانِيْ
 سِيمُخ اوْ را غَانِدَلْ كَفْرْ مَتْوَنِيْ
 نَيلِيْكَا اسْرَاء كَعْ دِين بِندِونِيْ
 سَبَبْ كَعْ كَافِرَاه فَدَادُورَا كَا
 نِيعْ كُوسِتِيْ اَللَّه لَن اوْ تو سَانِيْ
 سَكِحْ اوْ ما هِيْ بُوجُوكَا وِينِيْ
 سِرْ قَافْ فَنَا هِيس و دَادِلن فُوفُور
 سِرْ قَالْ لَلَّيْ اوْ مُوغْ سَامَلا كُونِيْ

اعْ سِيو و عَمَلْ كَبا كُوسَانِيْ
 انْدِي و وَغْ وادون كَعْ عَوْمِهَا كَيْ
 ايْكُودِين تُولِيس وادون دَوِينِيْ
 سِيو و عَمَلْيَيْ وادون اَلَانِيْ
 سِر تَانِيْ وادون دِين اوْ عَشْكَهَا كَيْ
 لَن نَوْنَا كَيْ اعْ شَافُورَانِيْ
 سُويْمِجي و بِيجِيْ كَابِيه و رَنَانِيْ
 كَابِيه و وَغْ اِسْلَام لَنْعْ وادونِيْ
 كُوسِتِيْ جَعْ نَبِيْ سَكَابِيْه سَانِيْ
 جَعْ نَبِيْ دَاوَه اِغْسُن هِرسَانِيْ
 كَعْ فَدَاجِچِكُور مرْ اعْ نَرَا كَا
 لَن سَبَبْ كِيدِيكْ افَا بِكِيتِيْنِيْ
 لَن سَبَبْ اِيْه افَا مَتْوَنِيْ
 شَاعِشْ كَه سِنْدَاعِن كَعْ آنپُور ۲
 سِرْ قَافِيْنِيْا اَن اَمْفِرِيك اَمْبُونِيْ

بـنجور عـشـلـيـوـاتـيـ لـنـعـلـيـكـانـيـ
 تـرـكـاـ دـاعـ اـغـلـكـاـ کـاـ سـجـروـنـيـ اـتـيـ
 غـلـاـکـوـنـيـ زـنـاـمـرـاعـ وـادـوـنـيـ
 وـادـوـنـ سـاـیـکـيـ مـوـغـسـالـوـغـانـيـ
 فـاتـيـعـ سـلـهـفـرـوـتـ لـهـ فـغـاـعـلـکـوـنـيـ
 هـلـاـغـکـارـ فـرـیـنـتـهـ کـلـاـکـوـهـانـيـ
 هـاـدـفـ اـتـوـاسـنـدـیـعـ بـوـجـوـنـيـ
 یـینـ اـرـفـ تـوـرـوـ وـوـاـغـیـنـ تـرـوـسـ
 سـرـتـانـیـ الـوـسـ الـمـوـنـ فـادـوـنـيـ
 کـعـ لـاـکـیـ تـکـاـسـکـعـ لـوـعـشـانـيـ
 نـلـنـکـاـ وـرـوـهـ مـرـاعـ بـوـجـوـنـيـ
 کـارـوـ بـوـجـوـنـيـ سـوـیـ فـیـسـاـهـیـ
 بـوـجـوـلـ نـقـیـ سـکـایـهـانـيـ
 اـتـوـاسـوـکـیـهـ فـقـکـاتـ دـاـبـنـاـ
 غـلـاـکـوـنـيـ مـرـاعـ تـتاـکـ کـرـامـانـيـ

رـوـمـوـعـسـاـ آـیـوـمـوـغـکـوـهـ رـوـفـانـيـ
 وـوـعـ لـنـعـلـیـ کـعـ دـیـنـ لـیـوـاتـیـ
 بـنجـورـ دـیـنـ وـیـلـاـعـ اـفـاـمـاـتـانـيـ
 هـمـشـکـوـنـوـ اـیـکـوـکـ کـلـاـکـوـهـانـيـ
 نـاـغـیـعـ یـینـ سـنـدـیـعـ مـرـاعـ بـوـجـوـنـيـ
 لـنـ دـاـوـوـلـ ۲ـ اـفـلـ کـ اـمـبـوـنـيـ
 هـمـشـکـاـ فـرـیـنـتـاـهـیـ وـادـوـنـ یـمـفـوـنـیـ
 کـوـدـوـ فـفـاـهـیـسـ کـعـ لـوـیـهـ بـاـکـوـسـ
 کـوـیـوـلـنـ مـیـسـمـ اـجـیـرـ رـاـهـیـنـیـ
 لـنـ رـیـکـاـتـ غـاـدـکـ حـرـمـةـ بـوـجـوـنـيـ
 بـیـتـوـ نـاـمـرـاعـ کـاـ بـوـشـکـانـيـ
 سـرـتـانـیـ کـیـتـوـ مـوـغـکـوـهـ سـوـسـهـیـ
 لـنـ مـلـیـاـ اـیـکـیـ مـرـاعـ اـهـلـیـنـیـ
 سـبـکـانـ فـقـیـرـ اـتـوـاـ اـیـنـاـ
 مـغـکـوـنـوـ اـیـکـوـ وـادـوـنـ نـمـانـيـ

سبب تیغ کاهی بو غمہ نا آتی
 یان غونو وادون کلا کوهانی
 مراع ووع آیو سکلا کوهانی
 ایکیله فرینته سکایه سانی
 اع کلا سوان سرتا پروا نی
 نوجو جمع نبی نا غیس کمع قوہ
 فون فادالکو نا غیس کیات
 اع مو غسا احسن ملا کو بیتی
 ووع وادون ایکوا کیه ورنانی
 سبب ولا سکو مراع ووع وادون
 لو ان رامبو تی اع کمع دین کلوع
 فدا لله او موب سکایه سانی
 نلیکا سندیع لمع لیسانی
 مولا سکسای او تکی او موب
 اتس ووع وادون تو وانوی

دادی ووع وادون اع کمع سمجھاتی
 تمو بوجو نی سنت اتینی
 بجور فغیران هیا غرض سانی
 هی فرا وادون بچیک لا کونی
 صحابہ علی پا ووہ مقیمنی
 اع کجمع نبی پوستینی امہ
 نولی اما تور علی صحابہ
 نولی جمع نبی پا ووہ مقیمنی
 ایکو سن وروہ مراع سکسای
 مولا نی باعہ فنا غیس احسن
 آنا ووع وادون ایکو دین کانتو غ
 سرتا او تکی کاتیغ لانی
 فرا ووع وادون کلا کوهانی
 ایکو رامبو تی او رادین تو توب
 مولا کو دو غان وا جب حکومی

رَأْمِبُوْتِي سِيْرَأْهِ سِبْجِي سِجِينِي
 لَوَانْ اِيْلَاٰتِي هِينُوْغَكَادَارْوَعْ
 اِيْكُو سِكْسَانِي وَادَونْ مَاهِچِي
 بُوجُولْنَتِي سِبْلَنْ دِينَانِي
 مُولَامَعْكُونُو وَادَونْ سِكْسَانِي
 دِينْ چَانْخَاعْ اَوْلَيْهِ فَنْطِيلِي كَارَوْ
 دِينْ اَوْلَيْهَا كَيْ اَهْبُونْ اَمْبُونِي
 لَنْ كَالْجَعْقِيْقَيْ اِيْكُو سِكْسَانِي
 لَنْ اَدْوَسْ جِيْضِي چُوكَپَلَاعْ صَكَّة
 اَدْوَسْ جِنَابَة مَكْسَاتُورْ وَانِي
 دِينْ كَوْمَفُولَكَيْ نِيْشَكَّة بَدُوكْ
 بَچِيكْ اِيْلِيْشَا سِكْسَا وَدِينِي
 دِينْ چِينْطِيلَكَيْ اَعْ كَانْتُوغَانِي
 اَنْغُورَأَكَيْ مَرَاعْ بَدَانِي
 چُوكَلَهْ اَدَولْ مَرَاعْ مَادَونِي

تَافِي كَعْ بِرْوُوكْ سَكَابِيْهَا نِي
 اَنَا وَوْعَ وَادَونْ اِيْكُو دِينْ كَانْتُوغْ
 دِينْ كَرْ وَجُوكْ بَالْفَانْ حَقْكِي
 اِيْكُو عَشَلَارَاء نَامَرَاعْ اَتِينِي
 مِيسُوهْ پُو صَوْتَنَا كَلَاكُوهَا نِي
 اَنَا وَوْعَ وَادَونْ سِيْكِيلِي لَوْرَوْ
 سَرْ تَادِينْ بُونَدَا تَغَانْ لَوْرَوْنِي
 سَرْ تَادِينْ روْبَعْ كَلَابَاعْ اَوْلَانِي
 وَادَونْ كَعْ تِيْعَكَالْ دَوْسْ جِنَابَة
 مُولَانِي اَجا اِيْسِيْنْ غَلَاكُونِي
 بِنْجُورْ صَلَاتِي صِبَعْ دِينْ كَادُوكْ
 مَعْكُونُو اِيْكُو اَجا لَامَكُونِي
 اَنَا وَوْعَ وَادَونْ فَنْطِيلْ لَوْرَوْنِي
 اِيْكُو سِكْسَانِي وَادَونْ كَاوِينِي
 تِكَسِيْ وَادَونْ اِيْكُو كَاوِينِي

فینو جولو غنا ا توالي کاني
 دوروغ سکسانی زنا آراني
 سيراهي چيلیع چمار بداني
 لن آدواد و اينکو سکسانی
 فاس کيا اسوه تا پکني
 تو مکا سيليت کي هتوبي
 فرا ووغ وادون آنا دنپاني
 لن آهي حسود مراع بعشانی
 نیغ او مه با هي ا جا چو لونغا
 ووغ لنغ اغكم داري بوجوني
 کو مکالوغامونکا متونے
 آللہ تعالیٰ تکا بالینی
 کارو بوجوني بچيك کع سوھي
 نلينکا غا پف مراع بوجوني
 کع مها سوچي تکا کويونی

نیغ لنغ لیا مو غسا بوجوني
 مولا دین سکسانو نور و فانی
 آنا ووغ وادون مودیل رو فانی
 اينکو ووغ وادون کوروه کاواني
 آنا ووغ وادون اينکو رو فانی
 دین لولوها کي چعدک ساغکاني
 اينکو سکسانی کلا کوه کاني
 آهی دات اوندات کيا کوساني
 هي فرا وادون بچيك انتغا
 يين اورا اوليه مراع ايدیني
 يين بوجولنخ اور اشي ديني
 اينکو ووغ وادون اوليه بندوني
 مراع او ما هي بوجوني مانيه
 کفن ووغ وادون برخوا راهنی
 اينکو ووغ وادون اوليه بندوني

چو جالو فکا ته کتون یین کاره
 ته تو دا هم بوا غ سور کانی
 نیغ بوری اینکی اجا سه برانا
 ویں اکو فکات له سا اینکینی
 موغ کاری بالوغ کلیسا اینی
 انا جهنم دی جو عکر وا کی
 اینکو ووع وادون فاصاریانی
 بوجولنی کیدیک اکیه
 یین کو راغ اکیه اجا کو کرنغ
 دن پاسا بعکات کاعکو غیتو نی
 اینکودات او ندات لی او یه ای یون
 سرتانی قارون بیسکو مفوی
 هی بیسرا النخ مو عسا سوینی
 تا هو میویه هی افا ورنانی
 سکع ووع وادون نیغ قیامه

دادی ووع وادون اجا کو مندوغ
 بیسیم سهنا ووئی تونو کاوینی
 جمع نبی دا ووه بچیک راسانا
 کفن ووع وادون اینکو چومونی
 بیسیو قیامه اینکو راهینی
 ایلا تی میلیت توك جی طوکی
 سنجان لا غشکم خ صلاح و شینی
 شکر وادون مراغ ویویه
 بچیک نو هفا ها کلو آن سنت
 سبب ووع وادون لون دون دوینی
 بوجولنی نولی ووع وادون
 اینکودین لبور کایه عملی
 کفن ووع وادون مو نی مغلکه
 داری بوجو کو آندی رو فانی
 اینکو فرشیران میکوت رحمتی

أَنْتَ أَغَامَهُ بِرَغْوُتْ رَاهِينِي
بِوْجَوْلَنْغَيْ رُوفَكْ أَتِينِي
أَولَمَهِيْ كَوْلِيْكْ سَنْدَاعْ فَغَانِي
لَنْ مَلَائِكَةَ سَكَانِيْهَا
سَبِيلْ مَعْلُونْوْكَعْ دِينْ لَا كُونِي
أَجَاجُوْغِيْلِيْنِجْ لَنْعُكْ كَانْ طَبْعُ
دَوْوِيْنِيْ دَهْنْ هَوْغَكَاتْمَعْوِيْ
بِلِسْوَقِيَّا مَهَهَ اِيْكُوْمَشْكَانِيْ
نَيْعُ بُورِيْ اِيْكِيْ كَاتْرَأَغَانِيْ
نَيْعُ سَوْرَكَانْفَوْرِ سِيجِيْنِيْ
بِكِيْ فَعَلِيْرَانْ سُرْتَابْ بِوْجَوْنِيْ
أَنَاءَكَعْ أَكِهَصَبْرَا تِينِيْ
أَتِيْ نَزِيْكَانْ سَكَعْ بِوْجَوْنِيْ
دِينْ قَوْمَفَاسْتَعْ كَلَوْأَنْ بِجِيكِيْ
كَعْ لَا كِيْ سُوكِيْهَهَ اِيْنَاءَ بَدَانِيْ

وَادُونْ كَعْ أَورَا صَبَرَاتِيْنِيْ
دَادِوْ يَبوُنَهْ أَغْ نَلِيْكَانِيْ
أَمِيْكِيرَا كَيْ أَغْ فَرِكَرَانِيْ
لَعْنَتِيْ اللَّهِ سَرْتَابَنْدُونِيْ
إِيْكُوْوَوْغْ وَادُونْ إِغْلَمْ نَمْضَانِيْ
دَادِيْ وَوْغْ وَادُونْ بَعِيْكَ لَعْ أَنْسَعْ
كَعْ دَوْ دَوْ بَوْ جَوْ كَفْنَ أَتِيْنِيْ
بَكَالْ دِيْ فَاكُوْمَاهَاطَالَوْرَوْنِيْ
بُوكُسِيْ جَعْ تِيْ دَادِوْ مَعْكِسِيْ
فَفْتَ وَوْغْ وَادُونْ بَيْسُوْ مَعْكُوْنِيْ
هَادُونْ كَعْ غَرْ كَسَاحِرَمْ لَاكُونِيْ
فِيْمَ فِينِدَوْ وَادُونْ إِغْلَمْ دَوْنِيْ
فِيْمَ تَلُوْ وَادُونْ إِغْلَمْ دَوْنِيْ
أَولِيْمِيْ وَيُوبِيْهْ كَلوَانْ كِيدِيلِيْ
أَورَا كَيْرِيْنَ كَارَوْ تَغْشَكَانِيْ

سبب غیلیقی فیطین آتینی
 بوعده لن سنت بیسوسیان هولیه
 هولانی لویه با کوس آتینی
 اغکم فینوچی اغ فغیرانی
 سرتانی غرگسانع باندانی
 ایکوفیع ففت هو شکر ویلانی
 هوع پاوی سنت مراع آتینی
 داوتا هو تیکا اولمه بکنی
 اغ تیکا ه ففت اغکم سنبوت
 من او اانا بکنرانی
 نیع سور پا سیر آتینکنی
 بیسوس معکونی آنا ترا کا
 نلینکا او موع کار و بوجوی
 ایکو ووغ وادون نوم بجینی
 دا پکله غرگسان مراع بدانی

ساند اغ فغانی حموکوف کار وی
 اشکه دین سوون داون ناما نیه
 آنا اغ زمان کا لشکر شانی
 سرتانی اکید کویر اغ شانی
 وادون کع غرگسان مراع بدانی
 یمفوی لوعا بوجولن شی
 یمفوئی او مه سفا بوجوی
 داوتا ه فادون علا رادن اتی
 هی فرا وادون بچیک داغربوت
 سایصا کایه لا کوئی
 ساله سیجینی هو عکات متونی
 ففت ووغ وادون بکال چیلا کا
 وادون کع فطوس الافادوی
 پاییئی بولوع ملیر و ماتانی
 نلینکا لوعا سفا بوجوی

ایکو دین کاوی لارا آتینی
 فدا نی کوچیم کع و روہ تیکوس
 اهل نرا کاما هوکان پدانی
 اغکم غلیبو اتی فکو و آتا نی
 کو بحالو کانجیم دینار سلاوی
 کع بکال مفکون نیق نرا کانی
 سرتا فنا هیس ادول آیونی
 سکم او مهی متوكا و بینی
 اهل نرا کاغونو لا کونی
 لیانی هغان شومبی تورو نی
 اغ صلاة فرضولیما و قتو نی
 دا کلم طاعه اغ رسول الله
 کع کافیخ ففت و ویلا غانی
 ساله سجینی فرگرا ففت
 اهل نرا کاین او راتوبه

تیفونیخ او مه سفا بوجونی
 تامها جلا ران دین امئروس
 یا ایکون تو غکال نوم سجینی
 وادون کع مردی مرس بوجونی
 کیا بوجونی و وع اورادوی
 ایکو و وع وادون کفیخ فندو نی
 وادون کع بوكا مراع بدانی
 مراع و وع لنع لیا سرتانی
 ایکوفیخ تلو و ویلا غانی
 وادون کع او را آنا سجکانی
 دادوی اتی دهن غلا کونی
 دا کلم طاعه اغ کوستی الله
 دا کلم بکتی مراع بوجونی
 کفن و وع وادون دوینی صیفه
 تمو نی وادون نه فنا نی لعنه

يىن وو سكانتۇپ بىالجاسىبە
 با او ووس تۇك نىع كورۋانى
 بېچىك داتوبە كەش سا تىنى
 دوساكىغ كادوغ سىرلاڭ كۇنى
 مرگۇ كەم اپوغ كوشى قىدىزان
 فاتى دادنا وروه مەسىانى
 نىع غالىم دونپاڭ كەللىس دۇسام
 سبب بوجوكى لە ورنارنا
 أنا اخىرە كەتف لاغىچە
 يىن اىغىكە غەفۇغ اغ نزاڭانى
 أنا اغ اقى لەن عېتىأكى
 هوى لەن نفسۇ سەرتاشىطانى
 كەن زەكىي اغ تراڭانى
 هوى لەن نفسۇ اورا پىدوڭ
 اغ هوى نفسۇ مۇغۇكە كېتۈكى

دورۇغۇ تۇتۇپ لاۋاتى تۇبة
 تۇتۇپ لەۋاتى اىكۈمىسىانى
 مۇلا ووغ وادون لەسا اىكىنى
 بېچىك داڭا فۇسىرتاھارىنى
 بۇونا تىمن اغ فەقا فۇران
 آجا سۇھايما سېب تىكاني
 آجا كېنىچوت سەنخ لەن آيناء
 صبر صبر ناقوات قوا تنا
 بېچىك كولىئىدا آينادىن سەنخ
 بېچىك ايدىغا سېبن دېيانى
 اىكۈفرىڭ را كەنپەنغا كى
 تېكسي چوچوك فيئكار فانى
 مۇلا كېندا دېنغا مەفاعى دالانى
 دېنىي كەن غەفۇغ اغ سورى
 تېكسي كابىيە كەنپەنغا كى

دَالَّا نُسُورَكَ أَغْيَلُ لَا كُوْنِي
 غَامِبَه دَالَّا نِي دَارَاسَارَاسَا
 اللَّهُ تَعَالَى صِفَه لَوْمَانِي
 دَالَّا نُنَرَّاكَا أَولَمَّه يِيمِنَاعَ
 دَالَّا نُسُورَكَارَادُوي وَكَاهَ
 أَتَوَّا كَرُوْغُوْأَتِينِي مِيمِكِيرُ
 دِينُ لَا كُوْنِي سُوفِيَا آيْجَا
 مُؤِّكِي كَرِصَهَا فَارِيعَ فِي تُولُوعَ
 رَأْيَاتَانْ كُوْلَاجَالَرَا يِسْتِرِينِي
 سَابِكَدِنِيمِي سَكِعَ مَعْصِيَة
 بُوْوَنْ فَقَرَكَسَوُ الْعَاقِبَه
 نِيعَ تَعَكَالْ لَوْرَوْسَاسِيْ مُحَرَّمَه
 جَمِسِيْ فُونِجُولْ بَشِيْ مَعْشَانِي
 لَه سَعْلَغْ أَتَوْسَ لَبَارِسِيُونِي
 رَوْعَ فُولُوهْ لَوْرَوْفَنَاغْكَالَانِي

مُولَّا يَا أَكِيه فِي نِتَاعَانِي
 مُولَّا يَا أَكِيه فَرَامِنُوسَا
 يِينَ أَوْرَا أَوْلِيَه فِي تُولُوعَانِي
 مُؤِّكِي فَعَثِيرَانْ هَارِيَشِيْ كَامِفَاعَ
 لَنْ كَامِفَقا كَيْ أَولَمَّه غَامِبَاهَ
 أَعَ وَوْعَكَعْ مَحَا إِيكِيلَه شِيشِرُ
 كَلَوَانْ خَتمَ أَولَمَّه مَاهِجا
 يَا اللَّهُ كُوْسِتِيْ كَعَصِفَه أَكُوعَ
 دُومَاتَعَ كُوْلَاه لَنْ سَدَآيَانِي
 سَابِكَدِكِياتْ غَلَامِفَاه طَاعَه
 لَنْ مُؤِّكِي فَارِيعَ حَسَنَ الْخَاتَه
 دِينُ كَاوِي لَيْزِينْ لَا كُونِي قَلَمَه
 نِيعَ أَثَنِينْ وَأَكِي مُوْغَكُوه دِينَانِي
 تَاهُونِي سِيَكَتْ لَوْرَوْ بَعْدَانِي
 سِيفِتِه بِرِانِكُو مُوْغَكُوه وَوْلَانِي

ای نیکیلہ شیر ایکو کع پکاوے
 حاجین جوانا کلا هیرانی
 اغ پوستی اللہ کع صفة غفور
 اغ بکجم بنی اغلم مصطفی
 لن صحابتی سکایہ بانی

ابی محمد صالح حاجوی
 أنا اع دیسا کلا لیع مشکونی
 انسن اموجی سرانا شکور
 رحمہ لن سلام موکا تقفا
 لن هریق کایہ کولا ور کانی

أَقُولُ قَوْلَ الْقَائِلِ :

وَإِنْ تَجِدْ عَيْنًا فَسُدْدُ الْخَلَاء
 فَجَلَّ مَنْ لَا يُبَدِّي فِيهِ وَخَلَاء

(الفتنی)

بعون الملك المعبد و بجاہ ذی المقام محمود



فنولیسٹ
 راضی عارف
 جپکالن ڈمک